

# نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد

عدد أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم

[ اردو - اردو - urdu ]

شیخ محمد صالح المنجد

ترجمہ: اسلام سوال و جواب ویب سائٹ  
تنسيق: اسلام ہاؤس ویب سائٹ

ترجمة: موقع الإسلام سؤال وجواب  
تنسيق: موقع islamhouse

2013 - 1434

IslamHouse.com



## نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے بیٹیوں کی تعداد

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹیاں اور وہ کس بیوی سے تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم؟

الحمد لله

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں بیٹے اور بیٹیاں جن میں سب سے پہلے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو کہ بچپن میں ہی فوت ہوئے ، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ سواری پر سوار ہونے کی عمر تک زندہ رہے ، ان کے بعد زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی تھیں ۔

پھر ان کے بعد رقیہ اور ام کلثوم ، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن ہیں ، اور ہر ایک کے بارہ میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی دوسری بہنوں سے بڑی تھی ۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کیا گیا ہے کہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تینوں سے بڑی تھیں ، اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی تھیں ۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ، اور اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ نبوت سے قبل پیدا ہوئے یا کہ وہ بعد از نبوت ، اور بعض نے اسے صحیح قرار دیا کہ وہ نبوت کے بعد پیدا ہوئے ۔

اور اس میں بھی اختلاف ہے کہ آیا عبداللہ ہی طاہر اور طیب ہیں یا کہ وہ دونوں کوئی اور ہیں اس میں دو قول ہیں ، اور صحیح یہی ہے کہ یہ دونوں عبداللہ کے لقب ہیں واللہ تعالیٰ اعلم ۔

اور یہ سب کے سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولاد ہے ، اور کسی دوسری بیوی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کی لونڈی ماریہ قبطیہ سے آٹھ ہجری میں ابراہیم پیدا ہوئے ۔ دیکھیں زاد المعاد ( ۱ / ۱۰۳ ) ۔

تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری کی ساری اولاد خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پیدا ہوئی اور صرف ابراہیم جو کہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ



تعالیٰ عنہا سے تھے جو کہ اسکندریہ کے بادشاہ اور قبطیوں کے بڑے کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور ہدیہ پیش کی گئی تھیں۔  
تو اس طرح صحیح یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی تعداد سات جن میں تین بیٹے اور چار بیٹیاں ہیں جن کے نام ذیل میں دیے جاتے ہیں:

بیٹے:

- ۱ - القاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۲ - عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
- ۳ - ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ

بیٹیاں:

- ۱ - زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۲ - رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۳ - ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- ۴ - فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علاوہ باقی ساری اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی صرف فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوت ہوئیں۔  
واللہ اعلم۔